

پروفیسر محمد یاسین ظفر  
(پڑھل جامد سننی)

# ماہ مبارک اور کرنے کے کام

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وبعد: يا أليها الذين

امرواكم بكتاب الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتذوقون۔

رمضان المبارك بارہ مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے اور جس میں روزے فرض کئے گئے ہیں۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔

اس مبارک مہینے کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اس میں کیسے ہوئے عمل کا اجر دیگر مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ روزے کے اجر کے بارے میں آپ ﷺ نے کا ارشاد ہے ”کل عمل ابن آدم يضاعف

الحسنة بعشر امثالها إلى سبع مائة ضعف قال الله عزوجل: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع

شهوته وطعمه من اجلی“ ابن آدم کا ہر عمل کئی گناہ تک بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی دس نیکوں کے برآمدتی کہ

سات سو گناہ تک بڑھادی جاتی ہے۔ سوائے روزے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا کہ اس نے میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کو چھوڑا۔ آپ نے مزید

فرمایا ”من صام رمضان ایمانا واحتسبا غفرله ما تقدیر من ذنبه“ جس نے ایمان کی حالت میں نیکی کی نسبت سے رمضان المبارك کے روزے رکھے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برآمدتی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”عليك بالصوم فانه لا عذر له“ اس اعتبار سے جس مسلمان کو رمضان المبارك کا مہینہ مل جائے تو اسے اپنی قسم پر ناز کرنا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے۔ سلف صالحین سے یہ بات

علوم ہوتی ہے کہ وہ چھ ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرم۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو چھ ماہ یہ دعا کرتے کہ اللہ اس مبارک مہینہ میں جو عمل کیے وہ قبول فرمائے۔ یہ اس قدر مبارک ایام ہیں کہ ان کی آمد سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں۔ شیطان مردوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات اسی بھی ہے جو ہزار ہمینوں سے افضل ہے۔

یہ دراصل عبادت کا مہینہ ہے خوش نصیب ہے وہ مسلمان ہے اس مبارک مہینے میں عبادت کی توفیق مل جائے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ یوں تو اس مہینے کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ جس سے بھر پور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس میں نیکی بھلائی کے کام کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں جن کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔

**روزہ و کھتنا**) ..... رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کرنا اس لیے کہ ایمان والوں پر فرض ہیں "فمن شهد منکم الشہر فلیحصہ" جو اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے۔ روزہ سے مراد صح صادق بے لیکر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دے اور نفس کی خواہشات سے باز رہے۔ اور اسکی حدود جو پابندی کرے۔

**نماز باجماعت کا اہتمام**) ..... یوں تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ باجماعت ادا گئی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فجر سے لے کر عشاء تک باجماعت نماز ادا کرے۔ رمضان المبارک میں اگر یہ انتظام کرتا ہے۔ تو یہ عادت دیگر مہینوں میں بھی پختہ ہو جائے گی۔

**نماز تراویح**) ..... قیام اللیل، تجد، قیام رمضان اور تراویح ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ جن کی مسنون تعداد گیرہ رکعتیں ہیں۔ باجماعت ادا کرنے کی فضیلہ ہے۔ جس میں امام قرآن حکیم کمل کرنے کی سُنی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے مکمل قرآن حکیم سننے کا موقعہ ملتا ہے۔ اور انسان نہایت طمینان اور پابندی کے ساتھ یہ عبادت کرتا ہے۔ خشوع و خضوع بھی حاصل ہوتا ہے۔ بعض نادان و دوست

تماز ترویج سے انکار کرتے ہیں۔ اور انکا کہنا یہ ہے کہ جماعت کا التزام نہیں کرتا چاہیے۔ بلکہ انفرادی طور پر گھروں میں پڑھ لئی چاہیے۔ اس اختلاف سے قطع نظر ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک عالم حافظ اور قاری کے لیے تو شاید یہ ممکن ہو مگر عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں۔ بہت ہی بہتر بلکہ افضل یہ ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت تراویح میں شامل ہو جائے۔ تاکہ عبادت کا لفظ حاصل کر سکے۔

**قرآن حکیم کی تلاوت**) ..... اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو رمضان میں لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا "شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن" اور وہ سرے مقام پر ارشاد ہے "انما انزلنا" فی لیلۃ القدر" قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب ہماری رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں نازل کی گئی۔ لہذا اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اگر انسان اسکے معانی پر غور و فکر کرے اور تدبر سے کام لے تو بہت ہی بہتر ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ خصوصی تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اس کا پڑھنا اور سننا باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک ایک حرف پر دس دس تکیاں ملتی ہیں۔

**ذکر و اذکار**) ..... رمضان المبارک نیکوں کا موسم ہمارا ہے۔ اس کا ایک ایک الحنایت قبیتی ہے۔ جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہذا اس میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرے۔ "سبحان الله، الحمد لله، لا إلٰهَ إِلَّا اللهُ، سبحان الله وَبِحَمْدِهِ سبحان الله العظيم" اور اس طرح زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ روزے دار کو چاہیے فضول گفتگو سے اجتناب کرے۔ اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ترکے۔

**صدقة خیرات**) ..... رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ﷺ جس کام کو سب سے زیادہ سرانجام دیتے وہ صدق و خیرات ہے۔ آپ سب لوگوں سے زیادہ گتی تھے۔ اور تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کے کاموں میں حصہ لیتے۔ اس لیے ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنے میں بڑھ پڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔

**دعا اور استغفار**) ..... روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ استغفار کرے۔ وہاں دعا بھی کرے اس لیے کہ روزے کی حالت میں کی گئی دعائیں ہوتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا "ثلاث دعوات لترى ددعوة الوالد لوالد" دعوة الصائم، دعوة المسافر" تین دعائیں روندیں ہوتیں۔ اپنی اولاد کے لیے والد کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اور خصوصاً

اظمار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا روزے دار کو یہ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اظمار سے قبل اپنے اور اپنے والدین آں اولاد عزیز واقارب، دوست و احباب، اسپا تذہ اور طعن کی بہتری کے لیے دعا کرے۔

﴿وَكَمْ جُنَاحٌ مِّنْ أَهْنَابٍ كَيْفَ يَعْلَمُونَ﴾.....

**جھوٹ** ..... روزہ جھض کھانے پینے کوڑک کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ ترکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ عام حالات میں بھی انسان کو جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مگر روزے کی حالت میں تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ یونا اس عظیم عمل کو بر باد کرنے کے مترادف ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”من لم يدع قول والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه“ (بخاری)۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے نفس کی کافی حاجت نہیں جو روزہ رکھے مگر جھوٹ نہ چھوڑے اس کا بھوکا پیاس اسراہنا بیکار ہے۔

**گالی گلوچ اور طعن و تشنیع** ..... روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت اپنا احساس دلاتا رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ خصوصاً کمال گلوچ سے مکمل پرہیز کرے۔ لغو بے ہودہ گفتگو سے اجتناب کرے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو خود اسے احساس دلا دے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”لیس الصيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث، فان سألك أحد أوجهل عليك فقل اني صائم اني صائم“ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزے کی حالت میں بے ہودگی اور بے حیائی کو چھوڑ رہا روزے میں شامل ہے۔ اگر کوئی کمال دے یا بد تمیزی کرے تو کہو میں تو روزے سے ہوں۔

**دھوکہ اور فریب کاری** ..... روزے کی حالت میں کسی کو دھوکہ دینا اور فریب کرنا بھی برا جرم ہے۔ عام حالات میں آپ نے ایسا کرنے والے سے ناطق توثیڈیا۔ آپ نے فرمایا ”من غش فلیس منا“ جو دھوکا کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ روزے کی صورت میں تو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہک عمل کرنے اور روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمين۔